



نبی ﷺ کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھا کرتے، عصر کی نماز اس وقت ادا فرماتے جب کہ سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا اور نماز مغرب وقت ہوتے ہی پڑھ لیتے

جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھا کرتے، عصر کی نماز اس وقت ادا فرماتے جب کہ سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا، نماز مغرب وقت ہوتے ہی پڑھ لیتے اور عشا کی نماز کبھی جلدی اور کبھی دیر سے پڑھتے؛ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو جلدی پڑھتے اور جب دیکھتے کہ لوگوں نے کچھ دیر کر دی ہے، تو دیر سے پڑھتے اور صبح کی نماز کو آپ ﷺ اندھیرے میں پڑھایا کرتے تھے

[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے افضل وقت کا بیان ہے نماز ظہر کا وقت تب ہوتا ہے، جب سورج عین وسط آسمان سے کچھ ہٹ جائے یا زوال کا وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے تاہم اگر گرمی اتنی زیادہ ہو کہ اس سے نمازی متاثر ہوتے ہوں، تو اس صورت میں نماز میں تاخیر کرنا افضل ہے، یہاں تک کہ فضا میں کچھ ٹھنڈک آ جائے جیسا کہ دیگر دلائل میں آیا ہے عصر کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے، جب سورج ابھی سفید اور صاف ہو اور بوقت غروب پیدا ہونے والی زردی کی اس میں آمیزش نہ ہو اور اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے، جب کہ شہ کا سایہ، زوال کا سایہ نکالنے کے بعد اس شہ کے مثل ہو جائے مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے، جب سورج غروب ہو جائے البتہ عشا کی نماز میں مقتدیوں کی حالت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اگر وہ عشا کے ابتدائی وقت، یعنی شفق کی سرخی زائل ہو نہ پر آ جائیں، تو وہ اس وقت نماز پڑھ لیں اور اگر اس وقت نہ آئیں، تو امام اسے رات کے تقریباً ابتدائی نصف حصے تک موخر کرے اگر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا، تو یہی اس کا افضل وقت تھا صبح کی نماز کا وقت تب ہوتا ہے جب روشنی کی اندھیرے کے ساتھ آمیزش شروع ہوتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3516>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

